



### سٹی آف برامپٹن نے 2021 کے لیے پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ ڈیفرل پروگرام کی منظوری دے دی

برامپٹن، آن (29 مارچ 2021) – اپنی 24 مارچ کی میٹنگ پر، برامپٹن سٹی کونسل نے 2021 کے لیے ایک اختیاری پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ ڈیفرل پروگرام کی منظوری دے دی، تاکہ کووڈ-19 کی عالمی وباء سے معاشی مشکلات کے شکار رہائشیوں اور کاروباروں کی مدد کی جا سکے۔

شرکاء 2021 کے پراپرٹی ٹیکسز کی ادائیگی کو مؤخر کرنے کے لیے 15 دسمبر 2021 تک درخواست دے سکتے ہیں۔ یہ پروگرام صرف درخواست کے ذریعے دستیاب ہے اور اس کا مقصد ایسے رہائشیوں اور کاروباری مالکان کی مدد کرنا ہے، جنہیں صرف 2021 کے ٹیکس کے سال کے لیے ادائیگی میں لچک کی ضرورت ہو۔ پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ ڈیفرل پروگرام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2021 کے لیے پراپرٹی ٹیکس چھوڑ دیے گئے ہیں۔

سٹی ہر سال دو ٹیکس بل جاری کرتا ہے، ایک انٹیرم ٹیکس بل، جو جنوری میں جاری کیا جاتا ہے اور ایک فائنل ٹیکس بل، جو جون میں جاری کیا جاتا ہے۔ انٹیرم یا فائنل 2021 پراپرٹی ٹیکس بل کو مؤخر کرنے کے لیے، 15 اپریل 2021 تک آن لائن درخواست دیں۔ اپنے انٹیرم ٹیکس بل کو مؤخر کرنے کا انتخاب کرنے والے شرکاء کا فائنل ٹیکس بل بھی خود بخود مؤخر ہو جائے گا۔

پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ ڈیفرل پروگرام کے لیے اہل ہونے کے لیے، آپ کے پراپرٹی ٹیکس اکاؤنٹ میں مارچ 2020 سے پہلے ٹیکس کے گزشتہ واجبات نہیں ہونے چاہیں۔ رہائشی اور کاروباروں کو اپنے پراپرٹی ٹیکس سٹی آف برامپٹن کو براہ راست ادا کرنے ہوں گے، نہ کہ کسی مورگیج کمپنی کے ذریعے۔ درخواست کو پراپرٹی کے مالک کی جانب سے ہونا چاہیے۔ معاشی ادارے پراپرٹی کے مالک کی جانب سے ٹیکس کو مؤخر کرنے کے لیے درخواست نہیں دے سکتے۔

ایسے رہائشی اور کاروبار، جو پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ ڈیفرل پروگرام کے لیے اہل ہوں اور موجودہ طور پر سٹی آف برامپٹن کے پری آتھورائزڈ ٹیکس پیمنٹ (PTP) پلان کا حصہ ہوں، انہیں PTP پلان سے نکال دیا جائے گا اور انہیں 2022 انٹیرم ٹیکس بل کی آخری تاریخ کے لیے PTP پلان میں دوبارہ اندراج کے لیے نئی درخواست دینی ہو گی۔ PTP پلان کے لیے دوبارہ اندراج کروانے سے پہلے تمام ٹیکسز ادا کیے جانے چاہیں۔

ایسے رہائشیوں اور کاروباروں کے لیے، جو پراپرٹی ٹیکس پیمنٹ ڈیفرل پروگرام میں شامل ہونے کا انتخاب کرتے ہیں، پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگیاں سال کے دوران کسی بھی وقت اور کسی بھی تعداد میں کی جا سکتی ہیں۔ کوئی بھی جرمانہ یا سود عائد نہیں کیا جائے گا، بشرطیکہ 2021 ٹیکسز 15 دسمبر 2021 تک ادا کر دیے جائیں۔

براہ کرم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے، کہ سٹی آف برامپٹن کو وقت پر ادائیگی موصول ہو، اپنے بینک یا اقتصادی ادارے کے عمل درآمد کے لیے تین سے پانچ ایام کار کا وقت رکھیں۔ 15 دسمبر 2021 کے بعد موصول ہونے والی ادائیگیوں پر جرمانہ اور سود عائد کیا جائے گا۔ جرمانوں اور سود کا اطلاق 2020 یا گزشتہ سالوں کے واجبات پر بھی ہو گا، جب تک کہ ٹیکس اکاؤنٹ پوری طرح ادا نہ کر دیا جائے۔

### درخواست کیسے دیں

سٹی آف برامپٹن کی [ویب سائٹ](#) پر آن لائن درخواست فارم کے ذریعے 15 اپریل 2021 تک درخواست دیں۔

اگر آپ کو کاغذی صورت میں درخواست چاہیے ہو، تو براہ کرم سٹی آف برامپٹن ٹیکس آفس سے رابطہ کریں۔ اس فارم کو مکمل کر لینے کے بعد، یہ سٹی کو 905-874 2296 پر بذریعہ فیکس یا یہاں بذریعہ ڈاک بھیجا جا سکتا ہے:

City of Brampton  
Finance Department, Revenue Division  
.Wellington St. W 2  
Brampton, ON L6Y 4R2

-30-

میڈیا کنٹیکٹ  
مونیکا ڈوگال  
کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ  
اسٹریٹیجک کمیونیکیشن  
سٹی آف برامپٹن  
905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)